



سوال

(235) مفت لائبریری کی خاطر رقم جمع کروانا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

لاہور سے بلال حماد لکھتے ہیں کہ "الحدیث" مجریہ یکم فروری ایک اشتہار بعنوان "اپنی لائبریری مفت بنائیں" شائع ہوا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ مبلغ دو ہزار روپے مکتبہ اصحاب الحدیث کے ہاں جمع کرانے کے بعد ہر تین ماہ بعد جو مکتبہ کی طرف سے کتاب شائع ہوگی۔ وہ رقم جمع کرانے والوں کو مفت پیش کی جائے گی۔ اور یہ جمع شدہ رقم بھی عند الطلب واپس کر دی جائے گی اس اسکیم کی شرعی حیثیت واضح فرمائیں۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس سوال کے جواب سے پہلے ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے "کہ قرب قیامت کے وقت سودی کاروبار اس قدر عام ہو جائے گا کہ محتاط قسم کے لوگ بھی اس کی گردوغبار سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔" (مسند امام احمد: 4/494)

ہمارے نزدیک مکتبہ اصحاب الحدیث کی طرف سے "لائبریری مفت بنائیں" کا اشتہار ایک سودی اسکیم کا حصہ ہے کیوں کہ اس میں تین باتیں بینک کے معاملہ سے گہری مماثلت رکھتی ہیں وہ یہ ہیں:

1- مکتبہ کے ہاں جمع شدہ رقم بطور قرض ہے جو عند الطلب قابل واپسی ہوگی۔

2- مفت کتاب دینے کی رعایت ایک خالص بھدردی کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ رعایت دو ہزار قرض دینے والوں کو حاصل ہوگی۔

3- یہ ایک خاص مدت کے ساتھ ملے شدہ ہے کہ تین ماہ بعد شائع ہونے والی کتاب مفت دی جائے گی۔

بینک کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔

(الف) لوگوں سے قرض لیتا ہے۔ جو عند الطلب قابل واپسی ہوتا ہے۔

(ب) سود دینے کی "رعایت" صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو بینک میں خاص رقم جمع کراتے ہیں۔



(ج) اس قرض پر ایک طے شدہ مدت اور شرح کے مطابق سود دیا جاتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ ہر وہ قرض سودی معاملہ ہے۔ جو کسی قسم کے مادی نفع کا باعث ہو، مذکورہ صورت مسئولہ میں تین ماہ بعد شائع ہونے والی کتاب مفت دینے کا مادی نفع صرف اس شخص کے لئے ہے جو وہ ہزار روپے مکتبہ کو بطور قرض دے گا۔ عام آدم اس رعایت سے محروم ہوگا۔ قرض دینے والا بھی کم از کم تین ماہ تک اپنی رقم واپس نہیں لے گا۔ اگر جمع شدہ رقم ناقابل واپسی ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اسے مضاربت کی شکل دی جائے اور نفع نقصان میں اسے شریک کیا جائے تو جائز ہے۔ بصورت دیگر جائز نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاملے سے محفوظ رکھے۔ آمین

حذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 1 صفحہ: 266